

کرنا پیش پر طور کے نذر کی مے بھی مے لٹر ایک وقت کرتے پیش کو بھیڑ بر

6	אֵז	לְאֵילָה	תְּעֹשֶׂהָ	מִנְחָה	סֶלֶת	שְׁנֵי	עֶשְׂרִים	בְּלוּלָה	בְּשֶׁמֶן	שְׁלִשִׁית
	یا	مینڈھے-کے-لیے	تو-بنائے	نذر-کا-بدیہ	میدہ	دو	دسویں-حصے	ملا-ہوا	تیل-میں	تہائی
					H5560	H8147	H6241	H8081	H7992	H7992

הֶהָיוּ:

بین
[H1969](#)

ہو گیا ملایا ساتھ کے تیل لٹر سوا جو کرنا پیش ساتھ بھی میدہ بہترین گرام کلو 3 تو جائے کیا قربان مینڈھا جب

7	וְיִין	לְנֶסֶךְ	שְׁלִשִׁית	הֶהָיוּ	תִּקְרִיב	רֵיחַ-	נִיחֹחַ	לִיהוּהָ:
	اور-مے	انڈیلنے-کے-لیے	تہائی	بین	تو-پیش-کرے	خوشبو	فرحت-بخش	یہوواہ-کے-لیے
	H3196	H5262	H7992	H1969	H7126	H7381	H5207	H3068

گی۔ آئے پسند کو رب خوشبو کی قربانی ایسی جائے۔ کی پیش پر طور کے نذر کی مے بھی مے لٹر سوا

8	וְכִי-	תְּעֹשֶׂהָ	בֶּן-	בָּקָר	עֹלָה	אֵז-	זָבַח	לְפִלֵּא-	גֵּדָר	אֵז-
	اور-جب	تو-بنائے	بچھا	گائے-بیل-کا	سوختنی-قربانی	یا	ذبیحہ	پوری-کرنے-کو	مٹ	یا
				H1241			H2077	H6381	H5088	

שְׁלָמִים
سلامتی-کی-قربانیاں
یہوواہ-کے-لیے
[H8002](#)
[H3068](#)

چاہے کرنا پیش بیل جوان پر طور کے قربانی کی سلامتی یا قربانی کی مٹ قربانی، والی ہونے بہسم کو رب تو اگر

9	וְהִקְרִיב	עֹלָ-	בֶּן-	הַבָּקָר	מִנְחָה	סֶלֶת	שְׁלִשִׁה	עֶשְׂרִים	בְּלוּלָה	בְּשֶׁמֶן
	اور-پیش-کرے	ساتھ	بچھڑے	گائے-بیل-کے	نذر-کا-بدیہ	میدہ	تین	دسویں-حصے	ملا-ہوا	تیل-میں
	H7126			H1241	H4503	H5560	H7969	H6241	H8081	H8081

הֶהָיוּ:
آدھا
بین
[H2677](#)
[H1969](#)

ہو گیا ملایا ساتھ کے تیل لٹر دو جو کرنا پیش بھی میدہ بہترین گرام کلو 4 ساڑھے ساتھ کے اُس تو

10	וְיִין	תִּקְרִיב	לְנֶסֶךְ	חֲצִי	הֶהָיוּ	אֲשָׁה	רֵיחַ-	נִיחֹחַ	לִיהוּהָ:
	اور-مے	تو-پیش-کرے	انڈیلنے-کے-لیے	آدھا	بین	آگ-کی-قربانی	خوشبو	فرحت-بخش	یہوواہ-کے-لیے
	H3196	H7126	H5262	H2677	H1969	H0801	H7381	H5207	H3068

ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی قربانی ایسی جائے۔ کی پیش پر طور کے نذر کی مے بھی مے لٹر دو

11	כֶּכֶה	יַעֲשֶׂהָ	לְשׂוֹר	הָאֶחָד	אֵז	לְאֵילָה	הָאֶחָד	אֵז-	לְשָׁה	בְּכַבְשִׁים
	ایسے	کیا-جائے	بیل-کے-لیے	ایک	یا	مینڈھے-کے-لیے	ایک	یا	بھیڑ-کے-لیے	بڑوں-میں-سے
	H3602		H7794	H0259		H0259			H7716	H3532

אֵז
یا
بکریوں-میں-سے
[H5795](#)

جائے۔ کیا ہی ایسا تو جائے چڑھایا کو بکرے یا بکری مینڈھے، بھیڑ، بیل، گائے، کسی بھی جب کہ بے لازم

12	כְּמוֹסֶפֶר	אֲשֶׁר	תְּעֹשֶׂהוּ	כֶּכֶה	תְּעֹשֶׂהוּ	לְאֶחָד	כְּמוֹסֶפֶרם:
	گنتی-کے-مطابق	جو	تم-بناؤ	ایسے	تم-بناؤ	ایک-کے-لیے	ان-کی-گنتی-کے-مطابق
	H4557			H3602		H0259	H4557

جائیں۔ کی پیش ہی ساتھ بھی نذریں کی مے اور غلہ مقررہ لئے کے ایک بر تو بے کرنا قربان کو جانوروں زائد سے ایک اگر

13	כָּל- בר	הָאֲזָרָח دیسی	יַעֲשֶׂה- کرے	כָּכָה ایسے	אֶת- کو	אֵלָה یہ	לְהַקְרִיב پیش-کرنے-کو	אִשָּׁה آگ-کی-قربانی	רֵיחַ- خوشبو	נִיחֹחַ فرحت-بخش
	H3605	H0249	H3602	H0853	H0428	H7126	H0801	H7381	H5207	

לִיהוָה:
یہوواہ-کے-لیے
[H3068](#)

گی۔ آئے پسند کو رب خوشبو کی اُن پھر کرے۔ ہی ایسا وقت کرتے پیش قربانیاں والی جلنے اسرائیلی دیسی بر کہ ہے لازم

14	וְכִי- اور-جب	יָגֹר رہتا-ہو	אֶתְכֶם تمہارے-ساتھ	יָרֵד پردیسی	אוּ یا	אֲשֶׁר- جو	בְּתוֹכְכֶם تمہارے-درمیان	לְדַרְתֵיכֶם تمہاری-نسلوں-تک	וְעִשָּׂה اور-کرے
			H0854	H1616			H8432	H1755	

אִשָּׁה
آگ-کی-قربانی

רֵיחַ-
خوشبو

נִיחֹחַ
فرحت-بخش

לִיהוָה
یہوواہ-کے-لیے

כָּאֲשֶׁר
جیسے

תַּעֲשׂוּ
تم-کرتے-ہو

כֵּן
ویسے

יַעֲשֶׂה:
وہ-کرے

[H0801](#)

[H7381](#)

[H5207](#)

[H3068](#)

کو رب خوشبو کی اُن پھر چڑھائیں۔ قربانیاں اپنی مطابق کے اصولوں ان پردیسی والے رہنے پر طور مستقل یا عارضی میں اسرائیل کہ ہے لازم بھی یہ گی۔ آئے پسند

15	הַקְהָל جماعت	חֻקָה قانون	אֶתְךָ ایک	לְכֶם تمہارے-لیے	וְלָגֵר اور-پردیسی-کے-لیے	הַגֵּר رہنے-والے	חֻקַּת قانون	עוֹלָם ابدی	לְדַרְתֵיכֶם تمہاری-نسلوں-تک
	H6951	H2708	H0259		H1616		H2708	H5769	H1755

כָּכָה
تمہارے-جیسے

כִּגֵּר
پردیسی-جیسے

יְהוָה
ہوگا

לְפָנַי
سامنے

יְהוָה:
یہوواہ

[H1616](#)

[H1961](#)

[H6440](#)

[H3068](#)

ہے۔ برابر تمہارے پردیسی میں نظر کی رب کیونکہ پردیسی، یا ہوں دیسی وہ خواہ ہیں، جیسی ایک پابندیاں لٹے کے لوگوں تمام والے رہنے میں کنعان ملک ہے۔ اصول دائمی لٹے کے اولاد تمہاری اور تمہارے یہ

16	תּוֹרָה شریعت	אֶתְךָ ایک	וּמִשְׁפַּט اور-فیصلہ	אֶחָד ایک	יְהוָה ہوگا	לְכֶם تمہارے-لیے	וְלָגֵר اور-پردیسی-کے-لیے	הַגֵּר رہنے-والے	אֶתְכֶם: تمہارے-ساتھ	פ ف
	H8451	H0259	H4941	H0259	H1961		H1616		H0854	

ہے۔ [شریعت ہی ایک لٹے کے پردیسی والے رہنے ساتھ تمہارے اور تمہارے

17	וַיְדַבֵּר اور-بولا	יְהוָה یہوواہ	אֵל- سے	מֹשֶׁה موسیٰ	לְאֹמַר: کہتے-ہوئے
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

18	דִּבְרֵי بول	אֵל- سے	בְּנֵי بیٹوں-کے	יִשְׂרָאֵל اسرائیل	וְאֶמְרָתִי اور-کہہ	אֲלֵהֶם اُن-سے	בְּבִאֲכֶם تمہارے-آنے-پر	אֶל- میں	הָאָרֶץ سرزمین	אֲשֶׁר جو	אֲנִי میں
	H1696	H0413		H3478	H0559	H0413	H0935	H0413	H0776		H0589

מִבֵּיא
لا-رہا-ہوں

אֶתְכֶם
تمہیں

שָׁמָּה:
وہاں

[H0935](#)

[H0853](#)

[H8033](#)

ہوں رہا جا لے تمہیں میں جس گے ہو داخل میں ملک اُس تم جب کہ بتانا کو [اسرائیلیوں

19	יְהוָה اور-ہوگا	בְּאֶחְלָכֶם تمہارے-کھانے-پر	מִלֶּחֶם روٹی-سے	הָאָרֶץ سرزمین-کی	תְּרִימוּ تم-اُٹھاؤ	תְּרוּמָה بدیہ	לִיהוָה: یہوواہ-کے-لیے
	H1961	H0398	H3899	H0776	H8641		H3068

کرنا۔ پیش کو رب پر طور کے قربانی والی اُٹھانے حصہ ایک کا اُس پہلے تو گے کھاؤ پیداوار کی وہاں اور

20	ראשית	עֲרֹסְתֵיכֶם	חֻלָּה	תְּרִימוֹ	תְּרִימוֹהָ	כְּתוּבֹת	זָרָן	כֶּן	תְּרִימוֹ
	پہلین	تمہارے-گوندھے-ہوئے-آئے-کی	روٹی	تم-اٹھاؤ	بدیہ	بدیے-کی-طرح	کھلیان-کے	ایسے	تم-اٹھاؤ
	H7225	H6182	H2471	H8641	H8641	H8641	H1637		

אתה:
أسے
[H0853](#)

اٹھانے لئے کے رب سے طرف کی جگہ کی گابنے وہ کرو۔ پیش پر طور کے قربانی والی اٹھانے کر بنا روٹی ایک لٹے میرے سے میں آئے خالص پہلے کے فصل
گی۔بو قربانی والی

21	מִרְאשִׁית	עֲרֹסְתֵיכֶם	תְּתִנוּ	לַיהוָה	תְּרוּמָה	לְדַרְתֵיכֶם:	ס
	پہلین-سے	تمہارے-گوندھے-ہوئے-آئے-کی	تم-دینا	یہوواہ-کو	بدیہ	تمہاری-نسلوں-تک	س
	H7225	H6182	H5414	H3068	H8641	H1755	

رے۔لاگو تک ہمیشہ اصول یہ کرو۔ کیا پیش قربانی یہ سے میں آئے خالص پہلے کے فصل اپنی

22	וְכִי	תִשָּׂאוּ	וְלֹא	תַעֲשׂוּ	אֵת	כָּל-	הַמִּזְבֹּחַ	אֲשֶׁר-	דִּבַּר	יְהוָה
	اور-جب	تم-غلطی-سے-گناہ-کرو	اور-نہ	تم-کرو	کو	تمام	حکموں	ان	بولا	یہوواہ
		H7686	H3808		H0853	H3605	H4687	H0428	H1696	H3068

אל-
מִשָּׁה:
سے
موسی
[H4872](#)

بے چکا دے کو موسیٰ رب جو کیا نہیں عمل پر طور پورے پر احکام ان نے تم اور بے ہوئی غلطی سے تم پر طور غیرارادی کہ بے سکتا ہو

23	אֵת	כָּל-	אֲשֶׁר	צִוָּה	יְהוָה	אֲלֵיכֶם	בְּיַד-	מִשָּׁה	מִן-	הַיּוֹם	אֲשֶׁר	צִוָּה
	کو	تمام	جو	حکم-دیا	یہوواہ-نے	تمہیں	باتھ-سے	موسی-کے	سے	دن	جب	حکم-دیا
	H0853	H3605		H6680	H3068	H0413	H3027	H4872		H3117		H6680

יְהוָה
יְהוָה
یہوواہ-نے
اور-آگے
تمہاری-نسلوں-تک
[H3068](#)
[H1973](#)
[H1755](#)

گا۔دے کو نسلوں والی آنے وہ جو یا

24	וְהִיָּה	אִם	מַעֲיִינִי	הַעֲדָה	נִעֲשֶׂתָה	לְשֹׁנָה	וְעֵשׂוּ	כָּל-	הָעֵלָה	פָּר	כֶּן-
	اور-بوگا	اگر	آنکھوں-سے	جماعت-کی	کیا-گیا	غلطی-سے	اور-چڑھائیں	تمام	جماعت	بچھڑا	بیٹا
	H1961			H5712		H7684		H3605	H5712	H6499	

בְּקָרָו	אֶחָד	לְעֵלָה	לְרִיחַ	נִיחֹחַ	לַיהוָה	וּמִנְחָתוֹ
گائے-بیل-کا	ایک	سوختنی-قربانی-کے-لیے	خوشبو-کے-لیے	فرحت-بخش	یہوواہ-کے-لیے	اور-اُس-کا-نذر-کا-بدیہ
H1241	H0259		H7381	H5207	H3068	H4503

وְשִׁעִיר-
עֵיזִים
אֶחָד
اور-اُس-کی-پینے-کی-قربانی
قانون-کے-مطابق
اور-بکرا
بکریوں
ایک
گناہ-کی-قربانی-کے-لیے
[H5262](#)
[H4941](#)
[H5795](#)
[H0259](#)

پر طور کے قربانی والی ہونے بھسم بیل جوان ایک جماعت پوری پھر تو ہوئی غلطی سے اُس پر طور غیرارادی اور تھی ناواقف سے بات اس جماعت اگر
لئے کے قربانی کی گناہ جماعت علاوہ کے اس گی۔ بو پسند کو رب خوشبو کی اس کرے۔ پیش بھی نذریں کی مے اور غلہ مقررہ وہ ہی ساتھ کرے۔ پیش
کرے۔پیش بکرا ایک

وְכַפֵּר הַכֹּהֵן עָל-כָּל-עֵדוּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִסְלַח לָהֶם כִּי-
اور-کفارہ-دے کاہن علیحدہ-سے تمام جماعت بیٹوں-کے اسرائیل اور-معاف-کیا-جائے انہیں کیونکہ

H5545

H3478

H5712

H3605

H3548

שָׁנָה גְלוּתִי הוּא יְהוָה הַבְּיָאוֹ אֶת-קַרְבָּנֶם לַיהוָה וְחַטָּאתָם
غلطی غلطی یہ اور-وہ لائے کو ان-کی-قربانی آگ-کی-قربانی یہوواہ-کے-لیے اور-ان-کی-گناہ-کی-قربانی

H3068

H0801

H0853

H0935

H1992

H1931

H7684

לְפָנַי שָׁנָה: עָל-יְהוָה יְהוָה
سامنے یہوواہ-کے علیحدہ-سے ان-کی-غلطی

H7684

H3068

H6440

گناہ اور قربانی والی ہونے بہسم کو رب نے انہوں اور تھا غیرارادی گناہ کا ان کیونکہ گی، ملے معافی انہیں تو دے کفارہ کا جماعت پوری کی اسرائیل امام
بے-کی پیش قربانی کی

وְנִסְלַח וְכַפֵּר הַכֹּהֵן לְכָל-עֵדוּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלִקְרָבָהּ אֶת-בְּתוּכָם כִּי-
اور-معاف-کیا-جائے گا تمام-کو جماعت بیٹوں-کے اسرائیل اور-پردیسی-کو ربنے-والے ان-کے-درمیان کیونکہ

H8432

H1616

H3478

H5712

H3605

H5545

לְכָל-הָעָם בְּשָׁנָה: ס
تمام-کو قوم غلطی-سے س

H7684

H3605

تھا۔ غیرارادی گناہ کیونکہ گی، ملے معافی سمیت پردیسیوں کو جماعت پوری کی اسرائیلیوں

27 וְאִם-נִפְשׁ אַחַת תַּחֲטָא בְּשָׁנָה וְהִקְרִיבָהּ עִזּוֹ בֵּית-שָׁנָה
اور-اگر جان ایک گناہ-کرے غلطی-سے اور-پیش-کرے بکری بیٹی اُس-کے-سال-کی

H8141

H1323

H5795

H7126

H7684

H2398

H0259

H5315

لְחַטָּאת: گناہ-کی-قربانی-کے-لیے

کرے۔ پیش بکری سالہ یک ایک وہ لئے کے قربانی کی گناہ تو ہو بوا گناہ پر طور غیرارادی سے شخص ایک صرف اگر

وְכַפֵּר הַכֹּהֵן עָל-הַנֶּפֶשׁ הַשְּׂנֵיט הַחַטָּאָה בְּשָׁנָה לְפָנַי יְהוָה
اور-کفارہ-دے کاہن علیحدہ-سے جان غلطی-کرنے-والی اُس-کے-گناہ-کرنے-میں غلطی-سے سامنے یہوواہ-کے

H3068

H6440

H7683

H2398

H7684

H5315

H3548

לְכַפֵּר עָלָיו וְנִסְלַח לָא: אֵס
کفارہ-دینے-کو اُس-پر اور-معاف-کیا-جائے گا اُسے

H5545

گی۔ ہو حاصل معافی اُسے تو گیا دیا دے کفارہ جب دے۔ کفارہ کا شخص اُس سامنے کے رب امام

29 הָאֲזִיחַ דִּישָׁא בְּבָנֵי יִשְׂרָאֵל וְלִקְרָבָהּ הִקְרָבָהּ בְּתוּכָם תּוֹרָה אַחַת יְהוָה
دیشی بیٹوں-میں-سے اسرائیل-کے اور-پردیسی-کے-لیے ربنے-والے اُن-کے-درمیان شریعت ایک ہوگی

H1961

H0259

H8451

H8432

H1616

H3478

לְכֹחַ לְעֵשָׂה: לְעֵשָׂה
تمہارے-لیے کرنے-والے-کے-لیے غلطی-سے

H7684

بے۔ ہوتا کرنا کو اسرائیلی جو کرے کچھ وہی لئے کے کرنے حاصل معافی وہ تو ہو بوا گناہ پر طور غیرارادی سے اُس اگر بے۔ لاگو بھی پر پردیسی اصول یہی

تھا۔ دیا حکم کو موسیٰ نے رب طرح جس کیا، سنگسار کر جا لے باہر کے گاہ خیمہ اُسے نے جماعت چنانچہ

37 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-**מֹשֶׁה** **לְאֹמֶר:**
اور-کہا یہوواہ-نے سے موسیٰ کہتے-ہوئے
H0559 H4872 H0413 H3068 H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

38 דָּבַר אֶל-**בְּנֵי יִשְׂרָאֵל** **וְאָמַרְתָּ** **אֲלֵהֶם** **וְעָשׂוּ** **לָהֶם** **צִיצִית** **עַל-**כַּנְפֵי****
بول سے بیٹوں-کے اسرائیل اور-کہہ ان-سے اور-بنائیں ان-کے-لیے جھالریں جھالریں پر کونوں
H0413 H0559 H3478 H0413 H1696
בְּנֵיהֶם **לְדֹרֹתָם** **וְנָתַנּוּ** **עַל-**צִיצִית**** **הַכִּנּוֹף** **פְּתִיל** **תְּכֵלֶת:**
ان-کے-کیڑوں-کے ان-کی-نسلوں-تک اور-ڈالیں پر جھالر کونے-کی دھاگا نیلا
H1755 H5414 H6734 H3671 H6616 H8504

بولگا ساتھ کے لباس سے ڈوری قرمزی ایک پھندنا ہر لگائیں۔ پھندے پر کناروں کے لباس اپنے نسلیں کی بعد تمہارے اور تم کہ بتانا کو اسرائیلیوں

39 וְהָיָה **לְכֶם** **לְצִיצִית** **וְרָאִיתֶם** **אֹתוֹ** **וּזְכַרְתֶּם** **אֶת-**כָּל-**מִצְוֹת****** **יְהוָה**
اور-ہوگا تمہارے-لیے جھالر-کے-لیے اور-تم-دیکھوگے اُسے اور-یاد-کروگے اور-تمہارے-لیے تمام حکموں یہوواہ-کے
H1961 H6734 H7200 H0853 H2142 H0853 H3605 H4687 H3068

וְעָשִׂיתֶם **אֹתָם** **וְלֹא-**תָתְרוּ**** **אֲחֵרֵי** **לְבַבְכֶם** **וְאַחֲרֵי** **עֵינֵיכֶם** **אֲשֶׁר-**אֵתֶם****
اور-تم-کروگے انہیں اور-نہ تم-گھوموگے پیچھے تمہارے-دلوں-کے اور-پیچھے تمہاری-آنکھوں-کے جن تم
H0853 H3808 H8446 H3824
זָנִים **אֲחֵרֵיהֶם:**
زنا-کرنے-والے ان-کے-پیچھے
H2181

نہیں پیچھے کے خوابشوں غلط کی آنکھوں اور دلوں اپنے تم پھر گے۔ کرو عمل پر ان تم اور گے رہیں یاد احکام تمام کے رب تمہیں کر دیکھ کو پھندوں ان گے۔ ربو ڈور سے زناکاری بلکہ گے پڑو

40 **לְמַעַן** **תִּזְכְּרוּ** **וְעָשִׂיתֶם** **אֶת-**כָּל-**מִצְוֹתַי****** **וְהָיִיתֶם** **קְדוֹשִׁים** **לְאַלְהֵיכֶם:**
تاکہ تم-یاد-کرو اور-تم-کرو تمام کو تمام میرے-حکموں اور-تم-ہوگے مقدس تمہارے-خدا-کے-لیے
H4616 H2142 H0853 H3605 H4687 H1961 H6918 H0430

گے۔ ربو مقدس و مخصوص سامنے کے خدا اپنے اور گے کرو عمل پر ان کے کر یاد کو احکام میرے تم پھر

41 **אֲנִי** **יְהוָה** **אֱלֹהֵיכֶם** **אֲשֶׁר** **הוֹצֵאתִי** **אֶתְכֶם** **מִמִּצְרָיִם** **מִצְרָיִם** **לְהָיוֹת** **לְכֶם** **לְאֱלֹהִים**
میں یہوواہ تمہارا-خدا جس-نے نکالا تمہیں سرزمین-سے مصر ہونے-کو تمہارے-لیے خدا
H0589 H3068 H0430 H3318 H0853 H0776 H4714 H1961 H0430
אֲנִי **יְהוָה** **אֱלֹהֵיכֶם:**
میں یہوواہ تمہارا-خدا
H0589 H3068 H0430

ہوں۔ خدا تمہارا رب میں ہوں۔ خدا تمہارا تاکہ لایا نکال سے مصر تمہیں جو ہوں خدا تمہارا رب میں